

## 232790- مسجد میں تراویح اور تہجد ادا کرتے ہیں تو امام کے ساتھ واپسی کیسے ممکن ہے؟

### سوال

سوال: آپ نے اپنی ویب سائٹ پر ایک فتویٰ میں ذکر کیا تھا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ مکمل تراویح کی نماز ادا کی اور امام کے واپس جانے پر ہی وہ واپس ہوا تو اس کیلئے مکمل ایک رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں مسجدوں میں آخری عشرے میں بیس رکعات تراویح اور تین وتر نماز عشاء کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، پھر سحری سے کچھ دیر قبل آٹھ رکعات تراویح جمع و تراویح کیے جاتے ہیں، اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں تو ہمیں ساری رات کے قیام اللیل کا ثواب کیسے ملے گا؟

### پسندیدہ جواب

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے بارے میں فرمایا: (جو شخص امام کے ساتھ مکمل قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام کے ساتھ ہی واپس ہو تو اس کیلئے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے) ترمذی: (806) نیز امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ: حسن صحیح حدیث ہے، ابوداؤد: (1375) البانی نے اسے "إرواء الغلیل" (193/2) میں صحیح قرار دیا ہے۔

لہذا یہ فضیلت اس شخص کیلئے ہے جو امام کے ساتھ مکمل تراویح ادا کرے اور امام کے واپس ہونے پر گھر جائے۔

نماز تراویح کا آخری حصہ کونسا ہے کہ جس کو ادا کرنے پر امام واپس ہوتا ہے؟ اس بارے میں شریعت نے اصول یہ بنایا ہے کہ وہ نماز وتر ہے، جیسے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور عمل دونوں سے ثابت ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (اپنی رات کی آخری نماز وتر بناؤ) بخاری: (998)، مسلم: (751)

چاہے وتروں کی ادائیگی نماز عشاء کے فوری بعد ہو یا رات کی آخری تہائی میں ہر دو طریقے درست ہیں۔

چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جس شخص کو یہ خدشہ لاحق ہو کہ رات کے آخری حصہ میں بیدار نہیں ہو سکے گا تو وہ رات کی ابتدا میں ہی وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصہ میں بیدار ہونے کی امید ہو تو وہ آخری حصہ میں ہی وتر پڑھے؛ کیونکہ رات کے آخری حصہ کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل بھی ہے) مسلم: (755)

اس بنا پر جو شخص نماز عشاء کے بعد پہلی جماعت کے ساتھ بیس رکعات ادا کرے اور امام کے ساتھ وتر پڑھ لے تو اس کی نماز تراویح امام کے ساتھ مکمل ہو جائے اور وہ امام کے ساتھ مکمل قیام کرنے پر پوری رات کے قیام کا مستحق ہوگا، اب اس کیلئے رات کے آخری حصہ میں دوسرے امام کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی پہلی نماز مکمل اور کامل ہے۔

البتہ اگر کوئی شخص مزید اجر حاصل کرنے کیلئے دونوں اوقات میں نماز پڑھتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے، تاہم اسے دوبارہ وتر نہیں پڑھنے چاہئیں؛ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

چنانچہ قیس بن طلق بن علی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: (ایک رات میں دو بار وتر نہیں ہیں) ترمذی: (470) اسے ابن حجر نے "فتح الباری" (2/481) میں حسن قرار دیا ہے، اور البانی نے اسے "صحیح سنن ترمذی" (470) میں صحیح قرار دیا ہے۔

یہاں اس کیلئے دو طریقے ہیں، ہر ایک طریقے کے بڑی تعداد میں علمائے کرام قائل ہیں:

1- جب پہلا امام وتر پڑھائے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور اضافہ کر دے تاکہ طاق نہ رہے بلکہ جفت ہو جائے، اور پھر دوسرے امام کے ساتھ رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھے اور اسی کے ساتھ ہی وتر ادا کرے۔

2- پہلے امام کے ساتھ ادا کیے ہوئے وتروں پر ہی التضا کرے، اور جب دوسرے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے تو پھر وتر ادا کیے بغیر واپس چلا جائے، اور اگر دوسرے امام کے ساتھ بھی وتر ادا کرے تو قیام اللیل کی نیت سے اس میں ایک رکعت مزید شامل کر کے اسے جفت بنا لے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو شخص رات کے اول حصے میں وتر پڑھے اور پھر آخری حصہ میں بھی اس کی آنکھ کھل جائے۔۔۔"

صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ: اگر کوئی شخص رات کے اول حصے میں وتر پڑھ کر سو جائے پھر رات کے آخری حصہ میں بیدار ہو تو جتنے مرضی نوافل ادا کرے اور اپنے ادا شدہ وتر کو اس کی حالت پر چھوڑ دے، یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، اہل کوفہ اور احمد کا موقف ہے۔

یہی طریقہ کار زیادہ بہتر بھی ہے؛ کیونکہ یہ متعدد اسناد سے منقول ہے: (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی نماز ادا کی ہے) "انتہی

"سنن ترمذی" (334/2)

مزید فائدے کیلئے فتویٰ نمبر: (155649) کا مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم.